

روزے کے فوائد و ثمرات

اور اس کا فلسفہ

حافظ صلاح الدین یوسف، لاہور

روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج کی طرح ایک عبادت ہے اور عبادت کا مقصد اللہ کے حکم کو بجالانا، اس سے تعلق و رابطہ استوار کرنا، اس کی رضامندی حاصل کرنا ہے، ان عبادات سے کچھ دنیوی مفادات بھی حاصل ہو جائیں تو وہ ضمنی فوائد ہیں، مقصد سے ان کا تعلق نہیں، یہی وجہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی ہر صورت میں ضروری ہے، چاہے اس کی علت یا حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا دنیوی فائدہ ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ ہمیں ظاہری طور پر اس میں اپنے جان و مال کا نقصان ہی کیوں نہ محسوس ہو، لیکن احکام اللہ اور عبادات میں کوتا ہی ہمارے لئے جائز نہیں بلکہ اللہ کی رضا کیلئے سب کچھ قربان کر دیا ہی مون کا مطلوب و مقصود ہے۔

روزہ ایسی عبادت ہے جس سے کچھ طبی فوائد بھی انسان کو حاصل ہوتے ہیں، جیسے حکماء کی اکثریت اس بات کو تعلیم کرتی ہے کہ بسیار خوری سے اجتناب صحت کیلئے مفید ہے، روزے میں انسان بسیار خوری سے بچ جاتا ہے (بشر طیکہ وہ عام دنوں کے بر عکس ثقل اور بھاری غذاوں سے پر ہیز کرے) تاہم یہ ایک ضمنی فائدہ ہے، روزے کا اصل مقصد اور فلسفہ وہ روحانی اور قلبی فوائد ہیں جو روزوں کو ان کی شراکطاً اور آداب کے ساتھ رکھنے کی صورت میں روزے داروں کو حاصل ہوتے ہیں، چنانچہ اس کے چند روحانی فوائد و ثمرات حسب ذیل ہیں:

تقویٰ کا حصول اور تقویٰ کے ثمرات

روزوں کا سب سے بڑا فائدہ تقویٰ کا حصول ہے۔ جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے: ﴿اعلمتُكُمْ بِأَنَّ رَبَّكُمْ لَنْ يُغْنِيَنَّ عَنْهُ أَنْ يَعْمَلُوا مَا شَاءُوا﴾ (آل عمران: ۱۷۲)

تثنیون (البقرة: ۱۸۳) ترجمہ: ”روزہ رکھنا اس لئے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔“ کیونکہ روزہ بھی عبادت ہی ہے اور عبادت کا مقصد اور فائدہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حصول ہی بتلا یا ہے۔ (و لیکھئے سورۃ البقرۃ: ۲۱) یہ تقویٰ کیا ہے؟ جو روزوں سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ اور روزے سے وہ پیدا کس

طرح ہوتا ہے؟ اور تقویٰ سے کیا فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں؟ یہ تین سوال قابل غور ہیں۔

۱۔ تقویٰ کا مطلب دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا اس طرح رائخ ہو جانا ہے کہ انسان اس کی نافرمانی کے مرتكب نہ رہے، ہر قدم سوچ کر اٹھائے اور زندگی کے ہر موز پر اور ہر معاملے میں اس کی ہدایات و تعلیمات کی پابندی کرے۔ بعض بزرگوں نے اس مثال سے واضح کیا ہے کہ ایک شخص ایسی ننگ گز رگاہ سے گزرے جس کے دونوں طرف کائنے ہوں تو وہ ایسی گز رگاہ سے کپڑے سنپھال کر اور دامن سمیث کر پلے گا تاکہ اس کا دامن کاٹوں سے نہ الجھے، تقویٰ معصیت سے دامن بجا کر زندگی گزارنے کا نام ہے۔

۲۔ اور یہ تقویٰ روزے سے اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ایک مومن نہ کھاتا ہے، نہ کچھ پیتا ہے اور نہ ہی اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، حالانکہ عام حالات میں اس کیلئے ان میں سے کوئی چیز بھی منوع اور حرام نہیں ہے، کھانا پینا بھی حلال امر ہے اور بیوی سے مباشرت بھی جائز کام ہے، لیکن ایک مومن روزے میں یہ حلال کام بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ گھر کی چار دیواری کے اندر بھی نہیں کرتا، جہاں اسے کوئی دیکھنے یا روکنے والا نہیں ہوتا، یہ کیا ہے؟ یہ وہی تقویٰ، اللہ کا ڈر ہے جو روزے سے اس کے اندر پیدا ہوا ہے۔ جب ایک مومن اللہ کے ڈر سے محض اس لئے حلال کام بھی نہیں کرتا کہ روزے میں اللہ نے ان سے روک دیا ہے اور رکسی کے ندیکھنے کے باوجود باز رہتا ہے، تو گویا روزے نے اس کے اندر تقویٰ پیدا کر دیا ہے جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ اگر انسان اس ماہانہ مشک کو اپنے احساس و شعور کا حصہ بنالے تو یقیناً اللہ کا یہ خوف قدم پر اس کے دامن گیرہ سکتا ہے اور اسے ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے باز رکھ سکتا ہے۔ جب وہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے ڈر سے جائز اور حلال کاموں سے بھی وقتی طور پر رکارہتا ہے تو جن چیزوں اور کاموں کو اللہ نے ہمیشہ کیلئے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، ایک مومن اور ایک متقیٰ ان کا ارتکاب کس طرح کر سکتا ہے؟

۳۔ ایک مومن کے اندر جب یہ تقویٰ اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو اسے حسب ذیل ثمرات و فوائد حاصل ہوتے ہیں:

تقویٰ کے ثمرات و فوائد

۱۔ ایک مومن کی ایمانی قوت میں اضافہ اور اللہ کی عظمت و جلالت کا نقش اس کے دل میں مزید گھرا ہو جاتا ہے، وہ اس کی اطاعت و فرمان برداری میں راحت اور اطمینان محسوس کرتا اور نافرمانی میں اس کی گرفت سے ڈرتا ہے۔

۲۔ اس کے عقیدہ آخرت میں تازگی اور پچھلگی آ جاتی ہے، وہ روزے میں اپنی لذتیں قربان اور اپنی خواہشیں ترک کرتا ہے تو ایسا وہ اس یقین کی بنیاد پر کرتا ہے کہ اس کے بد لے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اس سے زیادہ لذتوں والی چیزیں عطا فرمائے گا، یہ عقیدہ آخرت اور حسن صدقہ کا یہ تصور روزے کی مشکلات اور مشقوں ہی کو اس کیلئے آسان نہیں کرتا بلکہ دین و شریعت کے ہر معاملے میں اس کے اندر صبر و ثبات کی خوبیاں پیدا کرتا ہے جو اسے دین پر قائم رکھتی ہیں اور اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کرنے دیتیں۔

۳۔ جب ایک مومن اللہ کے حکم سے روزے میں ایک خاص وقت (یعنی صبح صادق کے ہو جانے) پر کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رک جاتا ہے اور ایک دوسرے وقت پر (یعنی سورج غروب ہوتے ہی) کھانا پینا شروع کر دیتا ہے اور دوسری جائز خواہشات بھی پوری کرنا چاہے تو کر لیتا ہے، تو شب و روز کے لمحات و اوقات میں اللہ کی یہ فرمان برداری اس کے اندر اللہ کی عبودیت و بندگی اور اس کے سامنے خود پر دگی کا جذبہ و شعور پیدا کرتی ہے کہ انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کیلئے ہے، ایک ایک لمحے اور ایک ایک گھنٹی کو اللہ ہی کی راہ میں یا اس کی مرضی و منشا کے مطابق ہی گزارنا ہے، اسی کا نام کمال عبودیت اور کمال بندگی ہے جو انسان سے مطلوب ہے۔

۴۔ اور جب بندگی کا یہ شعور اور ہر لمحے اور ہر گھنٹی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا یہ جذبہ عام ہوتا ہے تو پھر پورا معاشرہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا اور پورا ماحول ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے، پھر کفر و شرک (یعنی غیر وہ کارنگ) وہاں سے مت جاتا ہے اور محضیت و نافرمانی کی تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ ہر طرف صبغۃ اللہ ہی کی جلوہ آ رائی اور دین و شریعت ہی کی روشنی نظر آتی ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں ہوتا ہے، رمضان میں دن کو سب مسلمان ایک ہی کیفیت میں نظر آتے ہیں، گھر میں ہوں تب بھی، دفتر اور کارخانے میں ہوں تب بھی، سڑکوں اور بازاروں میں ہوں تب بھی، تھا ہوں تب بھی اور مجلس میں ہوں تب بھی، امیر ہوں تب بھی، فقیر ہوں تب بھی، رائی و حکمران ہوں تب بھی اور رعایا ہوں تب بھی، سب ایک ہی جذبے سے سرشار، سب پر ایک ہی کیفیت کا غالبہ اور سب ایک ہی آقا کے غلام اور ایک ہی حاکم کے حکوم نظر آتے ہیں، پورے معاشرے اور ماحول میں یہ یکسانیت کس نے پیدا کی؟ ایک ہی جذبہ و احساس کی کارفرمائی کیوں ممکن ہوئی؟ اور سب پر ایک ہی رنگ کا غالبہ کیوں اور کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ اللہ کے خوف اور اس کی کامل بندگی و اطاعت کے جذبے سے ہوتا ہے، جو رمضان المبارک میں روزوں کی وجہ سے انسانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک مینیے کے مسلسل روزوں کی مشق سے مسلمان معاشروں اور ملکوں میں

ایسا ہی ماحول مستقل طور پر پیدا کرنا چاہتا ہے، جس میں نیکی غالب اور بدی مغلوب ہو، خیر کی کارفرمائی ہوا اور شر کو رونمائی کا موقعہ نہ ملے حق پر چلنے والے سرخزو ہوں اور باطل پر چلنے والے رویا ہے۔

لیکن ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب رمضان المبارک میں حاصل ہونے والے تقویٰ کی ہم حفاظت کریں، اس جذبے اور شعور کو زندہ رکھیں جو روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اس ایمانی پیشگوئی کو قائم اور اس عقیدہ آخوت کو دل و دماغ میں ہر وقت مستحضر رکھیں جس سے روزے کی حالت میں ہم سرشار رہتے ہیں۔

لمحہ فکر یہ اور دعوت غور و فکر

آج ہمارے معاشرے میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے، نیکی مغلوب اور بدی غالب ہے، شرخوب پھول پھول رہا ہے اور خیر سکڑتا اور سمنتا جا رہا ہے، حق کی قوتی مزدور ہو رہی ہیں اور باطل قوتیں دندنار ہی ہیں، حتیٰ کہ نیکی کرنے والے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور برائی کرنے والے ڈنکے کی چوٹ پر خوب دھڑلے سے برائیاں کر رہے ہیں، حالانکہ ہم سالہا سال سنے رمضان المبارک کے روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود نیکی کا عمومی ماحول نہیں بن رہا ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے اور ہم اخلاق و کردار کی اتحاد گہرا یوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟

اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ایک رسم کے طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کی روح کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ایک محدود وقت کے دوران میں تو ہم کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں لیکن محروم ابدی سے اجتناب ضروری نہیں سمجھتے، گویا تقویٰ کی اصل حقیقت سے ہم محروم ہی رہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ روزے سے ہماری ایمانی قوت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ عقیدہ آخوت کا صحیح استحضار ہی حاصل ہوتا ہے اور نہ اللہ کا خوف ہی ہمارے دلوں میں راست ہوتا ہے۔

جبکہ برا یوں کے خلاف چہاد کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ایمان مسکون، آخوت پر یقین مضبوط اور اللہ کا خوف عنان گیر ہو، جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان نہ صرف یہ کہ خود برائی کا ارتکاب نہیں کرتا بلکہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھنا بھی اس کیلئے مشکل ہو جاتا ہے اور ایمان و تقویٰ اسی جذبہ و شعور کا نام ہے۔

آج ضرورت اسی شعوری ایمان اور حقیقی تقویٰ کی ہے جو برائی کی راہ میں سد سکندری بن جائے۔ معاشرے میں کھلمن کھلا کسی کو اللہ کی نافرمانی کی جرأت نہ ہو اور لوگ میصیت کا ارتکاب کرتے ہوئے اسی طرح شرم اور حجاب محسوس کریں جیسے رمضان المبارک میں سر عام کھانے پینے میں ایک روزہ خوبی شرم اور حجاب محسوس کرتا ہے۔

مذکورہ فوائد کے علاوہ روزے کے چند اور فوائد بھی ہیں، روزے دار کو کوشش کرنی چاہئے کہ روزے کے یہ سارے فوائد حاصل کرے تاکہ یہ عادت لا حاصل نہ رہے، یہ مزید فوائد حسب ذیل ہیں:

☆ روزہ نفس کی سرکشی کا زور توڑنے میں مدد گار عمل ثابت ہوتا ہے۔

☆ عام طور پر دو چیزیں گناہ اور اللہ کی نافرمانی کا باعث بنتی ہیں، ایک نفس کی بڑھتی ہوئی خواہش اور اس کی سرکشی، دوسرا شیطان کا وجود اور اس کا مکروہ فریب۔

☆ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جس سے یقیناً نیکی کے رجحان والا ماحول پرداں چڑھتا ہے، خیر کے اس اضافے اور نیکی کے ماحول سے انسان اگر پورا فائدہ اٹھائے تو اس سے یقیناً اس کے مزاج و کردار کا وہ فساد دور ہو سکتا ہے جو رمضان المبارک کے گزرتے ہی دوبارہ لوٹ آتا ہے اور رمضان کی مشق و تربیت کو کا لعدم کر دیتا ہے۔

روزہ نفس کی بڑھتی ہوئی سرکشی کو بھی لگام دینا اور اس کی حیوانی خواہشوں کو بھی بے قابو نہیں ہونے دینا، اس لئے نبی اکرم ﷺ نے نوجوانوں کو بطور خاص فرمایا تھا، کیوں کہ نوجوانی میں نفس زیادہ زور آؤ در ہوتا ہے: ”اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے، اس کو چاہئے کہ وہ شادی کر لے، اسلئے کہ یہ شادی نگاہوں کو پست رکھنے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی نفسانی خواہشوں کا زور توڑے گا۔ (صحیح بخاری، النکاح باب صحیح مسلم النکاح باب ۱)

اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی سرکشی کا زور توڑنے کیلئے روزہ مدد و معاون ہے، اس لئے ایک اور حدیث میں نبی ﷺ نے روزے کو ایک نفع بخش عمل فرار دیا۔ حضرت امامہ باہلی بیان کرتے ہیں: ”میں نے کہا، اللہ کے رسول! مجھے ایسا کلام بتالیئے جو مجھے نفع دے، آپ نے فرمایا، روزے رکھا کرو، اس کی مثل کوئی چیز ہیں۔“ (سنن نسائی، الصیام باب فضل الصیام)

روزے سے صبر کا وصف رائخ ہوتا ہے، صبر بھی ایک ایسا اہم عمل ہے کہ اس کے بغیر دین پر عمل اور ایمانی تقاضوں کی تکمیل ممکن نہیں، صبر کا وصف ہی انسان کے اندر ایسا حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کیلئے ساری دنیا سے لڑنے اور باطل قولوں سے نبرد آزمائونے کیلئے تیار ہو جاتا ہے۔ صبر کے مفہوم میں حسب ذیل چیزیں شامل ہیں:

☆ اپنے نفس پر کنڑوں کر کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اور اس کی معصیت سے بچنا۔

☆ اللہ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی لذتوں اور اس کے حیوانی تقاضوں کو نظر انداز کر دینا۔

☆ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں مشکلات آئیں، انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور لوگوں کی لعنت ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔

روزے سے اخوت و ہمدردی کا احساس اجاگر ہوتا ہے

روزے میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے ان لوگوں کی تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے جن کی زندگی سمجھ دتی اور فقر و فاقہ میں گزرتی ہے۔ اس لئے کہ مومنوں کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے: ”آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کرنے میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم بیدار رہتا اور بخار میں بتلا ہو جاتا ہے۔“ (صحیح مسلم، البر والصلة، باب تراجم المؤمنین)

ایک دوسری روایت میں فرمایا: ”سب مسلمان شخص واحد کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم درمحسوس کرتا ہے اور اس کے سر میں ہوتا ہے توبہ بھی سارا جسم درمحسوس کرتا ہے۔“ (صحیح مسلم)

اور جب ایک مسلمان روزے کی حالت میں فقر و فاقہ کی یکفیتوں سے گزرتا ہے تو اس کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو مستقل طور پر فقر و فاقہ سے دوچار رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی طاقت کے مطابق ان سے بھائی چارگی کا اظہار کرتا اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے جیسا کہ اسلام کا تقاضا ہے۔

روزہ اخلاق و کردار کی بلندی پیدا کرتا ہے

نبی کریمؐ نے فرمایا: ”روزہ ایک ڈھال ہے جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو دل گلی کی باتیں کرے نہ شور و شغب، اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہہ دے، بھتی میں تو روزے دار ہوں۔“ (صحیح بخاری)

اس حدیث میں روزے کو ڈھال قرار دیا گیا ہے۔ کس چیز سے؟ گالی گلوچ سے، شور و شغب اور دل گلی کی باتوں سے، حتیٰ کہ کوئی گالی بھی دے دے تو کہہ دیا جائے، میں تو روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں اپنی زبان کو گالی سے آسودہ نہیں کروں گا، لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں، عفو و درگز ر سے دوں گا۔ یہ اخلاق و کردار کی وہ بلندی ہے جو روزے سے پیدا ہوتی ہے اور ہونی چاہئے۔

روزے داروں کیلئے وعید

نبی کریمؐ نے فرمایا: ”کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی شب بے دار ہیں، جن کو ان کی شب بیداری سے سوائے بیداری اور بے خوابی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔“ (دارمی، مشکوہ)

یہ کون سے بد نصیب روزے دار ہوں گے جنہوں نے روزے رکھ کر بھوک پیاس کی تکلیف تو برداشت کی ہوگی لیکن روزے کے اجر و ثواب سے محروم رہیں گے؟ یہ لوگ ہوں گے جن کے اندر روزے سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے نہ اخلاق و کردار کی باتی اور نہ دیگر فوائد و ثمرات ہی انہیں حاصل ہوتے ہیں۔ (اللهم لا تجعلنا من هم)

جامعہ علوم اثریہ جہلم کی 20 دیں تقریب صحیح بخاری شریف و سالانہ کانفرنس

مورخہ 19 اکتوبر 2003ء ب مقابل 21 ربیعہ 1424ھ بروز جمعۃ المبارک کو جامعہ علوم اثریہ جہلم میں عظیم الشان تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت حافظ عبد الحمید عامر صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی ریکس جامعہ علوم اثریہ جہلم نے کی۔ پروگرام کا آغاز خطبہ جماعت سے ہوا۔ خطبہ جمعہ حضرت مولانا محمد عبد اللہ احمد چھوٹی صاحب شیخ الدین ریث مرکز الدعوة السلفیہ سیستانہ بغلہ نے جیت حدیث کے موضوع پر مفصل و مدلل ارشاد فرمایا۔ خطبہ جماعت کے بعد شیخ موصوف نے صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پر درس ارشاد فرمایا۔ عصر کی نماز کے بعد سیرت و فقہت امام بخاری پر حضرت مولانا محمد اکرم جیل صاحب شیخ الحدیث جامعہ علوم اثریہ جہلم نے نہایت علمی انداز میں مفصل درس ارشاد فرمایا۔ آپ کے درس کے بعد مولانا محمد عبد اللہ احمد چھوٹی صاحب نے عوام الناس کے سوالات کے نہایت ہی مسکت و تلی بخش جوابات دیئے۔ تقریب کے آخر میں ریکس الجامعہ نے دعا فرمائی۔ عشاء کی نماز کی بعد سالانہ الہمحدیث کانفرنس قاری عبد الشکور صاحب کی تلاوت کلام پاک سے شروع ہوئی۔ تلاوت کے بعد قاری عبد الوہاب صدقی صاحب نے اپنے نہایت ہی احسن انداز میں نقیۃ کلام پیش کیا۔ بعد ازاں حضرت مولانا سید عبدالغفور شاہ صاحب، فاضل نوجوان حضرت مولانا کاشف نواز رندھاوا صاحب، حضرت مولانا عبد الرشید جازی صاحب، قاری عبد الرحیم کلیم صاحب، شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب نے اہل حدیث کانفرنس سے خطاب فرمایا۔ آخر میں حضرت مولانا حکیم عبد الرزاق سعیدی صاحب کی دعا سے اہل حدیث کانفرنس میکمل پذیر ہوئی۔ اس عظیم الشان پروگرام میں جہلم، گجرات، چکوال، راولپنڈی، گوجرانوالہ اور دور دراز سے لوگوں نے شرکت کی اور ہر لحاظ سے یہ پروگرام کامیاب رہا۔ الحمد للہ علی ذا الک